© rasailojaraid.com

قرآنی سافٹ ویئرز کا تعارف

مرتب پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین ثانی

قرآنی سافٹ ویئرز کے حوالہ سے ششماہی المیزان اور علوم القرآن انڈیا اور بعض دیگر مجلات سے استفادہ کرتے ہوئے معلومات کو یکجا کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔

محمد سہیل پوری لکھتے ہیں قرآنی سافٹ ویرز قدر، کوثر، اور نور، یہ تینوں سافٹ ویرز تقریباً ایک ہی وقت میں شائقین حضرات تک پہنچے اور یہ تینوں، تین شہروں تہران، اصفہان اور قم میں تیار کیے گئے لہٰذا ان کا تقابلی جائزہ انکی گہری شناخت میں مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ تینوں سافٹ ویرز ایک مقصد کے تحت تیار کیے گئے اور وہ ہے قرآنی محققین کے لئے تحقیقی خدمات مہیا کرنا۔ اس مقالے کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے حصہ میں ہر سافٹ ویر سے متعلق معلومات پیش کریں گے اور دوسرے حصے میں ان کا دقیق تقابلی جائزہ لیں گے۔

سافٹ ویئر "قدر"

اس سافٹ ویر کی تیاری میں ایک سال کا عرصہ لگا اور تمام انتظامی امور سول انتظامیہ کے شعبۂ کمپیوٹر نے اپنے ذمہ لئے۔ اس سافٹ ویر کی ابتدائی تیاری قرآنی محققین نے کی اور متذکرہ ادارہ نے فقط انتظامی امور اپنے ذمے لئے۔ اس سافٹ ویر کی تیاری کا محرک، خصوصاً قرآن سے متعلق نظریہ میں ہے اور قدر، سافٹ ویر کے مقدمہ میں اس نظریہ پر بحث کی گئی ہے۔

اس نظریہ میں قرآن میں استعمال شدہ حروف اور کائناتی قوانین و قواعد کے درمیان رابطہ برقرار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس مقام پر چونکہ ہمارا مقصد قرآن کے بارے میں پیش کیے گئے نظریہ کا جائزہ لینا نہیں ہے لہذا ہم فقط اس سافٹ ویر میں موجود سہولیات کا جائزہ لیں گے۔ اہم قرآنی مباحث جن کی اس سافٹ ویئر میں تحقیق ممکن ہے وہ درج ذیل ہیں۔

۱۔ حروف الفبا اور آیات کا ارتباط

۲۔ الفاظ کی اصل کا آیات کے ساتھ رابطہ

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

۳۔ الفاظ کا آیات کے ساتھ رابطہ

حروف آیات (اصل الفاظ)

بظاہر ان سافٹ میں قرآنی پروگرام کے بنانے والوں کے نظریات کی عکاسی نظر آتی ہے کیونکہ مذکورہ مباحث وہی ہیں جو کہ اس پروگرام کو بنانے والے کی نظر میں ہیں اس سافٹ ویر کی مدد سے ایک یا زیادہ حروف والی آیات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ حروف ترتیب سے ہوں یا بغیر ترتیب سے انہیں منظم کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح الفاظ کی اصل کے بارے میں بھی تحقیق کرنے کی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ یعنی وہ آیات جو چند اصل کے اجتماع یا چند اصل کے اشتراک کی حامل ہیں انہیں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ جو محققین اصلی حروف اور اصلی الفاظ کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں ان کا اس سے بہت زیادہ سروکار رہتا ہے۔

سافٹ ویئر کی خوبیاں

☆۔ آیات اور الفاظ کی اصل نیز حروف الفبا اور الفاظ کا آیاتِ کے ساتھ رابطہ، ان سب کا دقیق جائزہ لینے کا کی سہولت موجود ہے۔

☆۔ سافٹ ویئر کی قابل قبول تیز رفتاری

☆۔ ہر آیت کے نیچے وضاحتی نوٹس لکھنے کی سہولت (خصوصاً محققین کے لئے)

سافٹ ویئر کی خامیاں

☆۔ تعلیمی استفادوں سے عدم توجہ (مثلاً آیات کے ترجمہ کا نہ ہونا)

☆۔ بعض ادبی اغلاط کی موجودگی۔

☆۔ سافٹ ویئر استعمال کرنے والوں کے ساتھ آسان رابطہ کی کمی۔

سافٹ ویئر کی سہولیات کے بہتر ہونے کے باوجود لسٹوں کی تیاری بہتر انداز میں نہیں کی گئی لہٰذا اُن سے آگہی کے لئے کافی وقت صرف کرنا پڑتا ہے کلی طور پر سافٹ ویئر قدرِ بہت اہمیت رکھتا ہے۔

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

قرآنی سافٹ ویئر ''نور''

مرکز تحقیقات اسلامی قم نے یہ سافٹ ویئر بہت قلیل عرصے میں تیار کیا اس پروگرام کو اُسی پیرائے میں تیار کیا گیا ہے کہ جس میں دوسرے متونِ روایات جیسے ''بحار الانوار'' اور وسائل الشیعہ تیار کیے گئے ہیں۔ مرکزِ تحقیقاتِ اسلامی عصر حاضر میں ملک میں اس طرح کے سافٹ ویئر تیار کرنے والا سب سے بہتر مرکز ہے۔ اس پروگرام کو تیار کرنے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ قرآنی پروگرام ایک سنجیدہ کوشش نہیں ہے۔ فقط ایک آزمائشی نسخہ ہے۔

مفید خوبیوں کا حامل ہے جو درج ذیل ہیں۔

☆ قرآنی آیات میں حروف، الفاظ یا عبارات کو ڈھونڈنے کی سہولت نیز الفاظ کی لسٹوں اور الفاظ کی اصل کا مختلف ترتیبوں کی بنا پر مشاہدے کا امکان۔

☆ قرآن سے متعلق عام اور مفید اطلاعات کا مشاہدہ

(استاد الٰہی قمشہ ای کا فارسی ترجمہ اور یوسف علی کا انگریزی ترجمہ موجود ہے۔

☆ بعض دیگر امکانات جیسے رنگ اور رسم الخط کی تبدیلی کی سہولت بھی موجود ہے۔

سافٹ ویئر کی خامیاں

☆ ایک اصل کے تحت آنے والی آیات میں غلطیوں کا وجود۔

مثال کے طور ''قلل'' کے مشتقات کے ساتھ ہی ''قول'' کے مشتقات بھی دکھائی دیتے ہیں۔

تبیان نمبر۲ میں استعمال کیے گئے بہتر طریقوں سے عدم استفادہ مثلاً تحقیقاتی نتائج کی فائل بندی، متن آیات سے متعلقہ متن کا انتخاب۔

قرآنی سافٹ ویئر ''کوثر''

یہ سافٹ ویر ادارہ ''مکتب فردا'' اصفہان نے تیار کیا ہے۔ ''کوثر'' سافٹ ویئر اڑھائی سال میں تیار ہوا اور دس افراد نے اس کی تیاری میں حصہ لیا۔ اس سافٹ ویر کا اصلی مقصد قرآنی

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

تحقیقات کے لئے سہولیات کا مہیا کرنا اور فرعی مقصد تمام افراد کو آموزش کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ 'کوثر' پہلا سافٹ ویر ہے جو سکھانے کی سہولت مہیا کرتا ہے اگر چہ یہ ایک آئیڈیل کام نہیں ہے پھر بھی قابلِ تحسین ہے۔

سافٹ ویئر کی خوبیاں

☆ ہر آیت کے نیچے اس کا فارسی ترجمہ موجود ہے۔

☆ ترجمہ آیات کے علاوہ ہر اصطلاح کا علیحدہ سے ترجمہ بھی موجود ہے۔

☆ قرآنی الفاظ کا حروفی خصوصیات کے حوالے سے جائزہ لیا گیا ہے۔

☆ حرفی الفاظ، مکمل الفاظ، آیات اور حتیٰ کہ سورتوں کو دوبارہ ذخیرہ کرنا اور دوبارہ پانا یعنی Delete شدہ الفاظ کو Restore کرنا۔

☆ حذف شدہ الفاظ کا دوبارہ قابل مشاہدہ ہونا۔

☆ محقق ہر گروہ میں، اس کے معنی کے پیش نظر دخل دے سکتا ہے؟

☆ الفاظِ آیات اور سورتوں کا باہمی تبادلہ۔ مثلاً صرفی کلمہ کے کسی گروہ کی موجودگی میں اس سے متعلق آیات کے گروہ کی تیاری یا اس کے برعکس۔

☆ ہر گروہ کے اعداد و شمار کی لسٹ کے حصول کا امکان۔

☆ قرآن کے موضوعی اور معنوی امور سے متعلق امکانات کی موجودگی۔

☆ موضوعی کام کے عناصر، الفاظ، آیات اور سورتیں ہو سکتیں ہیں۔

قارئین کی سہولت کے لئے کوثر کی رہنمائی کا کچھ حصہ یہاں بیان کیا جاتا ہے۔

''کوثر'' پروگرام کے مقاصد اور قابلیتوں کا تعارف

'کوثر' نے قرآن حکیم پر تحقیق اور مطالعہ سے متعلق مفید سہولیات فراہم کی ہیں۔ ان سہولیات سے تحقیقی امور کے علاوہ تعلیمی امور میں بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔

اقرآن کی خصوصیات، جو 'کوثر' پروگرام کے توسط سے قابل مطالعہ ہیں وہ درج ذیل

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

ہیں۔(الف) حروف الفبا (ب) صرفی الفاظ (ج) کامل الفاظ (د) آیات (ھ) سورتیں (و) موضوعاتِ قرآن۔ قرآن کے الفبائی حروف سے متعلق مطالعہ اور تحقیق زیادہ تر اعداد وشمار اور اعداد وشمار سے متعلق نظریات کے جائزے کیلئے مفید ہے۔ دیگر عناوین اور اعداد وشمار کا مطالعہ، زبان شناسی اور ادبیات کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ نیز معانی کی شناخت اور مفاہیم سے مربوط تحقیقات کے حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے۔

قرآن سے متعلق دیگر سافٹ وئیرز میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ زیادہ تر آیات میں تحقیق کے لئے مفید ہیں 'کوثر' پروگرام میں قرآنی آیات پر تحقیق کیلئے بہت زیادہ سہولیات موجود ہیں اس کے علاوہ صرفی الفاظ، مکمل الفاظ اور قرآنی سورتوں پر بھی مستقل طور پر تحقیق کی جا سکتی ہے۔

''کوثر'' سے استفادہ کرنے والوں کو چاہیئے کہ وہ صرفی اور کامل الفاظ سے متعلقہ فائلز کے انتخاب میں وقت نظر سے کام لیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک خاص شرائط کے تحت مفید ہیں الفاظ پر تحقیق کرتے وقت اگر لفظ کا خاص مفہوم بغیر کسی سیاق وسباق کے آپ کے لئے اہمیت رکھتا ہے تو اس وقت صرفی کے ساتھ کام کرنا چاہیئے لیکن اگر لفظ اور ایک اصل کی ترکیب سیاق وسباق کے ساتھ اہمیت رکھتی ہے تو کامل الفاظ کے ساتھ کام کرنا چاہیئے۔

صرفی الفاظ پر تحقیق کے انتخاب کے ساتھ 'متعلقہ لفظ کا ترجمہ' اصل لفظ اور دیگر بہت ساری صرفی خصوصیات سے متعلق تحقیق کی سہولت بھی موجود ہے۔ صرفی الفاظ پر اعراب لگے ہوتے ہیں۔ مثلاً کَتَبَ۔ کُتِبَ۔ وہ الفاظ جن کے اعراب ایک جیسے ہیں لیکن معانی میں فرق ہے انہیں بھی ایک دوسرے سے واضح کیا گیا ہے۔ مثلاً عین بمعنی آنکھ اور عین بمعنی چشمہ۔ اس پروگرام کی ایک اہم خصوصیت صرفی الفاظ، کامل الفاظ اور آیات وسورتوں کے مختلف حصوں کا آپس میں ارتباط ہے۔

مذکورہ تمام عناوین کے لئے دو سہولیات موجود ہیں۔ ایک تو ان کا ڈھونڈنا اور دوسرے ان کے کسی ایک گروہ پر عمل انجام دینا۔ گروہ، عناصر (صرفی الفاظ، کامل الفاظ اور آیات وسورتیں) کے اس

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

مجموعہ کو کہتے ہیں جو ایک نام سے Store کئے جاتے ہیں تاکہ بعد والے اعمال کو اس پر انجام دیا جاسکے۔ مثال:۔ تمام صرفی الفاظ جو ''اسم فاعل'' ہیں کو ڈھونڈ کر انہیں ایک نام کے تحت محفوظ کیا جاسکتا ہے۔ علاوہ ازیں اس صرفی گروہ پر مختلف تحقیقی کام انجام دیئے جاسکتے ہیں۔ مثلاً ان کا کسی دوسرے گروہ کے ساتھ تقابل کیا جاسکتا ہے۔ یا اُن کا پرنٹ لیا جاسکتا ہے ان آیات کو سکرین پر دیکھا جاسکتا ہے کہ جن میں یہ لفظ موجود ہو۔

اسی طرح کامل الفاظ کے ایک گروہ کو دیکھا جاسکتا ہے اور ضرورت کے وقت ان الفاظ والی آیات کو بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ آیات اور سورتوں کے درمیان میں بھی اس ارتباط کی وضاحت کی گئی ہے۔

پس ''کوثر'' سے استفادہ کرنے والا نہ صرف یہ کہ صرفی الفاظ، کامل الفاظ آیات اور سورتوں کے اندر اپنے تحقیقاتی نتائج کو محفوظ کر سکتا ہے بلکہ انہیں کسی دوسری جگہ پر منتقل بھی کر سکتا ہے۔ رابطوں کا مکمل ادراک کا باعث بنتا ہے کہ قرآن کریم سے متعلق تحقیقات بہت اچھے انداز میں انجام دی جاسکیں اور اُن کے نتائج مختلف شکلوں میں قابل استفادہ بنائیں جاسکیں۔

ایک گروہ کو ایجاد کرنے کے لئے تین مختلف راستے تجویز کئے گئے ہیں

(۱) عناصر کا بلاواسطہ انتخاب اور انہیں ایک گروہ کے تحت محفوظ کرنا

(۲) ظاہری خصوصیات کی مدد سے عناصر کی تلاش کا طریقہ کار

(۳) ہمسایہ گروہ کے ذریعے سے دوسرے گروہ کو پیدا کرنا

پہلا طریقہ (بلاواسطہ انتخاب) ان مواقع پر کام آتا ہے کہ جہاں ظاہری خصوصیات سے مدد لینا مشکل ہو۔

مثال:۔ اگر ہم زراعت سے متعلق الفاظ کو قرآن سے استخراج کرنا چاہتے ہیں تو الفاظ کے ظواہر سے استفادہ لازمی ہے لہٰذا مستقیماً ان الفاظ کو مشخص کر کے گروہ کے عنوان سے محفوظ کیا جاسکتا ہے۔

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

دوسرا طریقہ (تلاش) اس وقت قابل استفادہ ہے کہ جب ظاہری یا ادبی خصوصیات جو صرفی الفاظ میں مذکور ہیں میں سے کسی ایک خصوصیت کی مدد سے عناصر کے ایک مجموعہ کو معین کر دیا جائے۔

تیسرا طریقہ گروہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنا ہے۔ مثلاً اگر رسول اور نبی' کے الفاظ کا ملا لفاظ والے گروہ میں شامل ہوں تو یہ گروہ میں شامل ہوں تو یہ گروہ آیات والے مقام پر ان دو الفاظ والی تمام آیات کو ظاہر کرے گا۔ تیسرے طریقہ سے استفادہ کے لئے یہ نکتہ پیش نظر رہے کہ صرفی الفاظ اور کامل الفاظ کا خانہ سب سے چھوٹا خانہ ہے بس اس کے بعد آیت واقع ہے اور سب سے بڑا خانہ سورہ کا ہے ایک چھوٹے گروہ کی تصویر بندی کے لئے، بڑے گروہ میں متعلقہ گروہ کے اعمال کیلئے ضروری احکامات کو مدنظر رکھا گیا ہے۔

لیکن بڑے گروہ کو چھوٹے گروہ میں منعکس کرنے کے لئے پہلے اصلی متن کی حدود و قیود کو بڑے گروہ کے مطابق منظم کیا جاتا ہے پھر چھوٹے خانوں کو اصلی متن کی حدود و قیود میں متعین کیا جاتا ہے۔

الفاظ کے معانی میں تحقیق کرنے کی صلاحیت

واضح ہے کہ کمپیوٹر معانی تک مستقیما دسترس نہیں رکھتا بلکہ صرف الفاظ کے ظواہر پر اعمال انجام دیتا ہے۔ لیکن ہمیں زیادہ ضرورت معانی پر عمل انجام دینے کی ہوتی ہے۔ مثلاً الفاظ (شجر، نبات، زرع) ظاہراً ایک دوسرے سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے مگر معنی کے لحاظ سے ان کا باہمی تعلق مضبوط ہے۔

الفاظ، آیات یا سورتوں کے درمیان معانی کے ارتباط کو کمپیوٹر کے لئے کس طرح واضح کیا جا سکتا ہے؟ یہ کام خاص طبقہ بندی کے ذریعے سے ممکن ہے، کمپیوٹر کو دی جاتی ہے۔ الفاظ کے ایک گروہ کو وجود میں لا کر ان الفاظ کے معانی کی باہمی وابستگی کو کمپیوٹر پروگرام سسٹم میں فیڈ کیا جا سکتا ہے۔

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

علاوہ ازیں ضرورت کے پیش نظر مجموعہ الفاظ کو خاص موضوع سے مربوط کیا جا سکتا ہے۔ (یہ موضوع خود ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے) اسی سے ملتی جلتی روش آیات اور سورتوں کے لئے بھی بنائی گئی ہے۔

لہٰذا ہم الفاظ، آیات اور سورتوں کی سسٹم کے مطابق، طبقہ بندی کر سکتے ہیں۔ اس روش کے ذریعے سے جو کہ نسبتاً سادہ روش ہے۔ قرآن کے معانی کی پہچان کے لئے ہم مختلف انواع کے خاکے بنا سکتے ہیں۔ درج بالا بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ معانی کو فیڈ کرنے کے لئے مواد کمپیوٹر سے استفادہ کرنے والوں کے ذریعے سے ہی فیڈ کیا جائے گا۔

لہٰذا ضروری ہے کہ مفروضات اولیہ کو دقت کے ساتھ متعین کیا جائے اور پھر ''کوثر'' نے معانی کی تحقیق کے لئے جو سہولیات مہیا کر رکھی ہیں ان سے صحیح طور پر استفادہ کیا جائے۔ اسی صورت میں درست نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔

اکثر مواقع پر بہتر تحقیق کے دو درجے ہوتے ہیں ایک الفاظ کا اور دوسرا معانی کا۔ ''کوثر'' پروگرام دونوں کے امکانات فراہم کرتا ہے۔

کوثر کی تعلیمی خوبیاں:

١ قرآن میں موجود تمام اسماء اور افعال کا ترجمہ موجود ہے۔

٢ تمام اسماء و افعال کی صرفی خصوصیات نیز لفظ کی اصل اور نوع اور دیگر صرفی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔

٣ صرفی خصوصیات پر مشق کرنے اور امتحان لینے کی سہولت کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے۔

٤ تمام اسماء و افعال کے ترجمے کی مشق کرنے اور امتحان لینے کا امکان موجود ہے۔

٥ علم صرف کی تعریفیں رہنمائی میں موجود ہیں۔

٦ امتحانی نقطہ نظر سے آیات کے حوالے ٹیسٹ لینے اور مشق کرنے کی سہولت موجود ہے

٧ عربی زبان سکھانے کے پیش نظر آیات کا ترجمہ سطر بہ سطر دیا گیا ہے۔

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

۸ سطر بہ سطر موجود آیات کے ترجمہ سے مشق کرنے اور امتحان لینے کی سہولت موجود ہے۔

۹ خاص تعلیمی مقاصد کے تحت الفاظ، آیات اور سورتوں کی گروہ بندی کی گئی ہے۔

صرفی الفاظ والے حصے کی رہنمائی

اس حصے والی سہولیات سے استفادہ کرتے ہوئے ادبی اور معنوی میدانوں میں تحقیق کی جاسکتی ہے۔ اس حصے کی سہولیات زبان شناسی اور علوم قرآن کی تحقیق اور تعلیم کے لئے بہت مفید ہیں۔

صرفی الفاظ سے متعلق درج ذیل اطلاعات حاصل کی جاسکتی ہیں: (۱) لفظ کی اصل (۲) لفظ کی ادبی خصوصیات (۳) لفظ کا ترجمہ (۴) آیات کے متن میں صرفی ایڈریس۔

کلی طور پر اس حصہ کو اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ تحقیق یا تعلیم کے عمل کو مختلف شکلوں میں منظم کیا جاسکتا ہے۔ آپ ایک صرفی لفظ کی موجودگی میں اس کے مشخصات کو تلاش کرسکتے ہیں۔ نیز ایک یا چند ادبی مشخصات یا اصل کی موجودگی میں تمام متعلقہ صرفی الفاظ کو تلاش کرسکتے ہیں۔ صرفی لفظ کے انتخاب کے بعد آپ آیات میں اس کی متعلقہ جگہ (ایڈریس) بھی معلوم کرسکتے ہیں۔

صرفی الفاظ کے ایک مجموعہ کو ایک گروہ کے عنوان سے اور ایک نام کے تحت ذخیرہ کرنے کی بھی سہولت موجود ہے۔ یہ کام اس صورت میں مفید ہے کہ جب آپ الفاظ کے اس مجموعہ کو بعد والی تحقیقات کے لئے محفوظ رکھنا چاہیں۔ صرفی الفاظ کے ہر گروہ پر مختلف تحقیقی کام انجام دیئے جاسکتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے ''صرفی الفاظ کے گروہوں پر کام کا حصہ مدنظر رکھا گیا ہے۔ صرفی لفظ سے متعلق کامل الفاظ کی دستیابی بھی اس حصہ میں عمل میں آتی ہے۔

حدودِ آیات کے ذریعے لفظ کی دستیابی

بعض تحقیقاتی امور بجالانے کے لئے ضروری ہے کہ قرآن کے محدود الفاظ بعنوان

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

ایک گروہ معین کیئے جائیں۔ مثلاً اگر ہم حروف مقطعات والی سورتوں پر تحقیق کرنا چاہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ان سورتوں کا گروہ بنایا جائے گا پھر آیات کی حدود کو اس گروہ پر منظم کریں گے۔ اس فرمان کے ذریعے تمام الفاظ کو بغیر تکرار کے استخراج کریں گے اور پسندیدہ نام رکھیں گے۔ متن کے کسی ایک حصہ سے متعلق تحقیق پر مبنی گروہ، اعدادی گروہ کے نام سے ذخیرہ کرلیں گے۔ یہ گروہ الفاظ کی متعلقہ تکرار کے اعداد وشمار کی بازیابی کیلیئے دوبارہ دکھائے جاتے ہیں۔ ہر گروہ کو بنانے، چھاپنے اور منطقی اعمال کے لئے کئی سہولیات ہیں۔

''متن آیات میں صرفی لفظ کی جگہ'' والے حصے کا تعارف

اس حصے کی ذمہ داری یہ ہے کہ صرفی لفظ والی آیات جو آپ چاہتے ہیں، انہیں تلاش کرے۔ اس حصے کی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ چند مختلف اعراب کے ساتھ قرآن میں موجود ہوتو یا تو اعراب ثابت ہوں لیکن چند معانی کے ساتھ قرآن میں آیا ہوتو اس کے مختلف حالات قابل مشاہدہ ہیں۔ بنا بریں آپ کسی خاص خصوصیت یا معنی والے صرفی لفظ کو تلاش کرسکتے ہیں۔ دیگر قرآن سافٹ ویرز میں یہ خوبی نہیں پائی جاتی ہے۔

الفاظ کامل والے حصے کا تعارف

قرآن کے کامل الفاظ ایک یا چند صرفی الفاظ کی ترکیب سے تشکیل پاتے ہیں اور خود کامل لفظ آیاتِ قرآن کو تشکیل دیتا ہے۔ ایک کامل لفظ ظاہراً مکمل طور پر مستقل لفظ ہے اور اپنے سے پہلے یا بعد والے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ بالفاظ دیگر تمام الفاظ کے درمیان ایک فاصلہ موجود ہوتا ہے۔ کاملِ الفاظ پر تحقیق درج ذیل شرائط میں مفید ہے۔

۱۔ جب صرف الفاظ کے ظواہر کی اہمیت ہو۔

۲۔ جب اطمینان ہو کہ متعلقہ لفظ فقط ایک معنی رکھتا ہے یا یہ کہ تعدد معنی کا حاصل ہے۔ تحقیقی نتیجہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے گا۔

''کوثر'' پروگرام کا یہ حصہ تحقیق کے لئے درج ذیل سہولیات فراہم کرتا ہے۔

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

(ا)ان الفاظ کا ایک گروہ بنانا جو بعض آیات کے تمام الفاظ پر مشتمل ہوں یہ آیات انتخابی ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک سورہ سے چند آیات، ایک سورہ سے تمام آیات، تمام قرآن یا حتی کہ ایک خاص گروہ آیات ہو۔ اس سے متعلق تمام ضروری اعدادی اطلاعات دسترس میں ہیں ان سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ منتخب الفاظ کے ایک گروہ سے جدید گروہ کو بنانے کی سہولت بھی موجود ہے۔ اس طرح ایک خاص مفہوم والے الفاظ کے گروہ کا استخراج، نامگزاری اور ذخیرہ ممکن ہے۔

۳۔ خاص ظاہری خصوصیت والے الفاظ کی تلاش کی سہولت مثلاً وہ الفاظ جو خاص حرف کے ساتھ شروع ہوتے ہیں وہ الفاظ جو خاص یا حرف کے حامل ہوتے ہیں۔

۴۔ الفاظ کے گروہوں پر مختلف اعمال انجام دینے کا امکان

مثلاً ان کا ادغام، مشترکات کی شناخت اور ان کا باہمی تقابل، اسی طرح ایک گروہ میں موجود الفاظ کو اپنی مرضی کے مطابق مرتب کرنا۔ قرآن سے متعلق تحقیقاتی پروگراموں کے لئے بھی اس حصہ سے مؤثر استفادہ کیا جاسکتا ہے قرآن کی زبان سے آشنائی حاصل کرنے کے لئے بھی اس حصے کی سہولیات سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ معنوی نکات پر توجہ دینے اور الفاظ کی گنتی کے لئے بھی مفید ہے۔

موضوعاتی فہرست سے متعلق تحقیق والے حصے سے آشنائی۔ اس حصے کی مدد سے قرآن کریم کی معنوی طبقہ بندیوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور انہیں منظم کر سکتے ہیں۔ اس طبقہ بندی کا موضوع صرفی الفاظ، کامل الفاظ، آیات اور سورتیں ہوسکتی ہیں۔ یہ طبقہ بندی درخت کی شکل میں ہے۔ چونکہ ایک جڑ ہے اور چند شاخیں اور ہر شاخ مزید فرعی شاخیں بناسکتی ہیں اور یہ مزید سات سلسلوں تک بڑھ سکتا ہے، ہر شاخ سے حداکثر ۹ شاخیں بن سکتی ہیں۔

ان طبقہ بندیوں کو آپ بھی ''موضوعات کی درختی شکل'' کے حصے میں الفاظ، آیات اور سورتوں میں منظم کر سکتے ہیں۔

تمام موضوعاتی چینلز کے ہر موضوع کے تحت لامحدود اطلاعاتی عناصر ہوتے ہیں۔

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

یہ عناصر صرفی لفظ، کامل لفظ، آیات یا سورتیں ہوسکتی ہیں بالفاظ دیگر آیات یا سورتوں کا ایک گروہ ایک موضوع سے متعلق ہوسکتا ہے پس ایک موضوع، فرعی موضوعات کے علاوہ اطلاعاتی عناصر کے ایک گروہ سے بھی مربوط ہوسکتا ہے۔ یہ ارتباط، گروہ کے نام اوراس کے عنوان کی اس چینل میں موقعیت کے توسط سے کمپیوٹر کے لئے قابلِ تفہیم ہے۔

۲۔ نئے قرآنی سوفٹ وئیرز کا تعارف

سید امتیاز علی لکھتے ہیں کمپیوٹر نے تحقیقی کاموں میں انقلاب برپا کردیا ہے اورانہیں ایک نیا رخ دیا ہے تحقیقاتی کاموں کے لیے اس وقت ہزاروں سوفٹ وئیرز مارکیٹ میں موجود ہیں، جہاں دوسرے لوگ علمی تحقیقات میں کمپیوٹر سے مدد لے رہے ہیں وہاں اسلام اورقرآن کے علوم کے بارے میں تحقیقات کے لیے بھی کمپیوٹر سے استفادہ کیا جارہا ہے اگرچہ دوسرے علوم کی نسبت ابھی قرآن کے حوالے سے کمپیوٹر کے حوالے سے متعلق کام کم ہوا ہے لیکن جس اندازے سے اس سمت کام بڑھ رہا ہےاس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آئندہ نزدیک اس ضمن میں خاطر خواہ تبدیلی آئے گی اس مضمون میں ہم قرآن کے حوالے سے بنائے گئے سوفٹ ویرز کا ایک تعارف پیش کررہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ یہ سوفٹ ویرز قرآن پر کام کرنے والے محققین کے لیے سودمند ثابت ہوں گے۔

(ا) اسلامیکا:

یہ اسلام سے متعلق پہلا اردو ڈیٹا بیس کمپیوٹر سافٹ ویر ہے جو پہلے "نورالھدیٰ" کے نام سے مارکیٹ میں آیا تھا۔ یہ سوفٹ ویر ایک CD-RoM (سی ڈی روم) پر دستیاب ہے اس میں قرآن کریم کے چار اردو اور دو انگلش تراجم شامل ہیں۔ جناب قاری فہیم، مولانا شفیع، احمد رضا خان بریلوی اور جناب ابو منصور کے اردو تراجم کے علاوہ عبداللہ یوسف علی اور پکھتال (Pickthal) کے انگریزی تراجم اسلامیکا کی زینت ہیں، اس پروگرام میں عربی پڑھنے کی اہلیت نہ رکھنے والے ایسے افراد جو انگریزی رسم الخط سے آشنا ہیں کے لیے یہ سہولت رکھی گئی ہے کہ وہ قرآن کی عربی عبارت کو انگلش رسم الخط میں پڑھ سکتے ہیں اس پروگرام میں یہ سہولت ہے کہ آپ ایک وقت میں دو

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

Windows کھول سکتے ہیں اس ذریعہ سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ کوئی سے دو ترجمے بیک وقت کمپیوٹر اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں اوران دونوں کے درمیان موازنہ کریں۔

اسلامیکا میں ایک قرآنی لغت بھی موجود ہے جس میں قرآن کے ہر عربی لفظ اوراس کا اردو ترجمہ درج ہے، قرآنی الفاظ کے ان تراجم کوعربی اردو کی اہم مشہور لغات سے لیا گیا ہے قرآن کے علاوہ اس پروگرام میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ اور سنن ابوداؤد کے اردو تراجم بھی ہیں چونکہ یہ پروگرام اردو کا ایک مکمل ڈیٹا بیس ہے اس لیے اس میں قرآن وحدیث کی ان کتابوں کے علاوہ سیرت نبوی، اصحاب نبی اور محدثین کے حالات زندگی سے متعلق معلومات فراہم کی گئی ہیں اس پروگرام میں مسلمان صوفیا اوراولیاءکرام کا بھی ذکر موجود ہے، نیز اسلامی ممالک کا تعارف بھی شامل ہے یہ پروگرام انعام علوی کمپیوٹر نے تیار کیا ہے جوایک ایسی پاکستانی کمپنی ہے جس کا مرکز کینیڈا میں ہے۔

(۲)ھدیٰ

یہ پروگرام Windows پر چلتا ہے اور خالص قرآنی پروگرام ہے اس میں پورے قرآن کا اصلی عربی متن اعراب کے ساتھ موجود ہے اس پروگرام میں مکمل قرآن کی ترتیل کے ساتھ تلاوت بھی شامل ہے ایک مشہور بین الاقوامی قاری جناب ''پرہیز گار'' نے نہایت خوبصورت آواز میں اس پروگرام میں تلاوت کی ہے۔

''ھدیٰ'' میں ۲۰۰۰۰ ہزار سے زیادہ ایسے قرآنی موضوعات درج ذیل ہیں کہ ان میں سے ہر ایک موضوع سے متعلق آیات کو ترتیب وار لکھا گیا ہے یہ موضوعات الف، با کے اعتبار سے درج کیئے گئے ہیں جس کی وجہ سے متعلقہ موضوع کو باآسانی ڈھونڈا جاسکتا ہے موضوعات کے تحت قرآنی آیات کی تلاش کے علاوہ قرآن کے عربی یا انگریزی الفاظ کو بھی باآسانی تلاش کیا جاسکتا ہے، اس پروگرام میں جناب عبداللہ یوسف علی کے انگریزی ترجمے کو شامل کیا گیا ہے۔

یہ پروگرام Windows95 کے علاوہ Windows 3.1 سے بھی سازگار

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

(Compatible) ہے یہ پروگرام انگریزی کے علاوہ اردو، فارسی، بوسینیائی، فرنچ، جرمن اور بنگالی زبانوں میں بھی دستیاب ہے۔ یہ پروگرام دبئی کی ایک کمپنی طلوع کمپیوٹرز نے تیار کیا ہے۔

(۳) نور

یہ پروگرام بھی ایک سی ڈی روم میں دستیاب ہے، اس پروگرام میں قرآن کے عربی متن کے علاوہ حدیث کی کچھ بنیادی کتب بھی موجود ہیں قرآنی الفاظ، کلمات جملات اور آیات نہایت سرعت کے ساتھ تلاش کرنے کی صلاحیت اس پروگرام کا خاصہ ہے اس پروگرام میں تقریباً دس گھنٹے کی قرآنی تلاوت باصوت موجود ہے اس پروگرام میں تلاوت قاری عبدالباسط، مصطفیٰ اسماعیل، منشاوی اور بدوی جیسے شہرہ آفاق قاریوں کی آواز میں موجود ہے۔ یہ پروگرام مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم ایران نے ترتیب دیا ہے۔

(۴) القرآن الحکیم

ایک سی ڈی روم پر یہ پروگرام پاکستانی مارکیٹ میں وسیع پیانے پر دستیاب ہے۔ Windows پر چلنے والا یہ پروگرام مصر کی ایک کمپنی SAKHAR (صخر) کمپیوٹرز نے ترتیب دیا ہے، قرآن کا اصلی متن اس پروگرام میں نہایت خوبصورت رسم الخط میں موجود ہے قرآنی الفاظ، آیات اور موضوعات کی تلاش کی سہولت اس پروگرام میں موجود ہے اس پروگرام میں ابن کثیر کی عربی تفسیر قرآن بھی موجود ہے نیز ہر قرآنی لفظ کی عربی وضاحت بھی کی گئی ہے۔

(۵) عالم

بین الاقوامی سطح پر سب سے زیادہ مشہور اور مفید اسلامک سوفٹ ویر ہے اس میں رنگین قرآنی متن کے علاوہ تیس گھنٹے کی تلاوت بھی موجود ہے انگریزی تراجم میں عبداللہ یوسف علی اور پکھتال کے انگریزی تراجم بھی شامل ہیں تقریباً ۲۰۰۰ موضوعاتی فہرست بھی اسی پروگرام کی زینت ہے، اس پروگرام میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، الترمذی ابوداؤد کی کتب احادیث کے انگریزی تراجم بھی شامل ہیں اس کے علاوہ صحیح بخاری کی موضوعاتی فہرست بھی درج ہے جو حوالہ کے لیے نہایت مفید ہے

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

چند فقہی کتابیں بھی اس پروگرام میں شامل ہیں، امام مالک کی الموطاء اور فقہ السنہ موضوعاتی فہرست کے ساتھ موجود ہے چونکہ یہ پروگرام زیادہ تر مغرب کے نومسلموں کے پیش نظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے لہٰذا اس میں انگریزی زبان میں اسلام کے تعارف اور تعلیمات سے متعلق چند ضروری کتب کے علاوہ اسلام کی نامور شخصیات کی سوانح حیات بھی درج ہے، اسلامی تاریخ اور اسلامی اصطلاحات کی لغت بھی شامل کی گئی ہیں۔

(۶) اردو قرآن

تین سی ڈی روم پر مشتمل یہ پروگرام پاکستان کی مارکیٹ میں عام دستیاب ہے اس پروگرام میں اعراب کے ساتھ قرآن کا مکمل متن موجود ہے اس کے علاوہ تین انگریزی زبان میں عبد الباسط، یوسف علی، پکھتال، شاکر کے تراجم موجود ہیں۔ اس کے علاوہ عربی متن کو انگریزی رسم الخط میں بھی لکھا گیا ہے تاکہ عربی زبان سے ناواقف شخص قرآن کو عربی تلفظ میں پڑھ سکے قاری عبد الباسط اور قاری حوصری کی مکمل تلاوت قرآن بھی اس میں شامل ہے انگریزی کے علاوہ چینی، اردو، ملائی، انڈونیشائی، ترکی زبانوں میں قرآن کے تراجم بھی اس پروگرام کا حصہ ہیں۔

(۷) تجوید القرآن ویب سائٹ

بیسویں صدی کی آخری دھائی کی ایجاد انٹرنیٹ تمام شعبہ ہائے حیات پر تیزی سے چھائے چلی جارہی ہے اور اس بات کا روشن امکان ہے کہ نئی صدی میں انٹرنیٹ کو انسانی ضروریات میں شمار کیا جانے لگے گا۔ علوم القرآن کی تدریس وتبلیغ کے لیے بھی انٹرنیٹ کو استعمال کیا جارہا ہے۔ ہم تجوید القرآن کے لیے بنائی گئی ایک ویب سائٹ کا تعارف پیش کررہے ہیں۔ اس سائٹ پر جانے کے لیے آپ پہلے ''المیزان'' کی سائٹ پر جائیں جس کا ایڈریس http://www.asiapak.net/ukhuwat ہے پھر وہاں سے "QURANIC WORLD OF INTERNET" کے ذریعے تجوید القرآن کی سائٹ نمبر ۲ پر تشریف لے جائیں۔ اس طرح تجوید القرآن کی ویب سائٹ کھل جائے گی اور ایک ویب پیج نمایاں ہو جائے

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

گی۔

اس ویب پیج پر آپ کو درج ذیل Options نظر آئیں گی۔

۱۔المقدمہ ۲۔قریہ التجوید ۳۔کوخ الزوار

۴۔اخبار القریۃ ۵۔مخارج الحروف ۶۔المیم الساکنۃ

۷۔النون الساکنۃ والتنوین ۸۔النون والمیم المتشددین ۹۔المدود

ان نو Options میں سے آخری پانچ تو خالص تجویدی قواعد وضوابط اور ان کی مثالوں سے متعلق ہیں جن میں سے چند ایک کا ہم جائزہ لیں گے جبکہ پہلی چار تجوید کی اہمیت، پروگرام کے تعارف، اور اس سائٹ پر آنے والوں کے تعارف سے متعلق ہیں۔ اگر ہم "المقدمۃ" کی Options کا انتخاب کریں تو ہمیں "علم التجوید" سے متعلق ابتدائی معلومات مل جائیں گی البتہ یہ سائٹ سب کی سب عربی زبان میں ہے۔لہٰذا جو متن بھی یہاں تحریر ہوگا عربی ہی میں تحریر ہوگا۔ "قریۃ التجوید" کی Options انتخاب کرنے کی صورت میں تجوید کی اہمیت پر ایک صفحہ نمایاں ہوجائیگا۔

"کوخ الزوار" مخصوص اس ویب سائٹ پر آنے والوں کے اظہار خیال کے لیے۔اس سائٹ کے بارے میں اپنی تجاویز اور اپنی رائے آپ "کوخ الزوار" کی Options انتخاب کر کے اپنی رائے ریکارڈ کرواسکتے ہیں۔ "اخبار القریۃ" میں ویب سائٹ میں آئندہ نئے اضافات سے متعلق معلومات درج ہوں گی۔

تجوید کے مختلف ابواب کے لیے علیحدہ سے Options موجود ہیں مثلاً اگر آپ "النون الساکنہ والتنوین" کی Options انتخاب کریں تو کمپیوٹر کے مانیٹر پر نئی شکل نمایاں ہوجائے گی جس میں ظاہر کیا گیا ہے کہ نون الساکنہ اور تنوین کے چار احکام ہیں جو کہ:

۱۔الاظہار ۲۔الادغام ۳۔الاخفاء ۴۔الاقلاب

ہیں۔ان چاروں احکام میں سے ہم "ادغام" کا Option اختیار کریں تو نئی شکل نمایاں ہوجائے گی۔

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

اس صفحہ پر ادغام کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور ان حروف کی فہرست موجود ہے۔ اس میں ادغام کی اقسام بیان کی گئی ہیں جو غنہ کے ساتھ اور بغیر غنہ کے ہیں۔ ان دونوں اقسام کی مثالیں ملاحظہ کرنے کے لیے ہمیں ان میں سے کسی ایک کا ماؤس کے ذریعے انتخاب کرنا ہوگا۔

تجوید القرآن کی اس ویب سائٹ کی سب سے اہم خصوصیت وہ مثالیں ہیں جو ہر بات کے ساتھ دی گئی ہیں۔ ان مثالوں میں آیات کی مکمل تلاوت کی جاتی ہے اور ہر باب کے حکم کو اس ذریعے سے واضح کیا جاتا ہے۔

بغیر غنہ کے ادغام سے متعلق قرآنی آیات کی مثالیں درج ہیں اور ادغام کی جگہ کو خط کشیدہ کیا گیا ہے۔ جب ان آیات میں سے کسی ایک کو کمپیوٹر ماؤس کے ذریعے انتخاب کیا جاتا ہے تو اس آیت کی تلاوت ہوتی ہے یوں ''ادغام بلاغنہ'' کی عملی کیفیت ظاہر ہوجاتی ہے۔ اسی طرح شکل نمبر ۶ میں نون متشدد کے احکام کو مثالوں سے واضح کیا گیا ہے۔

(۸) قرآنی پروگرام تھائی لینڈ

ریاض ۲۰ فروری گزشتہ شام تھائی لینڈ کے سفیر برائے سعودی عرب کی رہائش گاہ پر ایک جدید کمپیوٹر کے ذریعہ قرآنی آیات کو دکھایا گیا۔ اس موقعہ پر پاکستان اور دوسرے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے سفارتی نمائندوں کے علاوہ تھائی لینڈ کے باشندے موجود تھے۔ موجودہ کمپیوٹر جناب حمید سیام والا کی ایجاد ہے جو بنکاک میں قائم اسلامک سوشل اینڈ اکونامک ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن آف تھائی لینڈ کے ایک ڈائرکٹر بھی ہیں، اس تنظیم کا مقصد تھائی مسلمانوں میں اسلامی علوم کی ترویج واشاعت ہے واضح رہے کہ مسلمان تھائی لینڈ کی ۵۲ملین آبادی کا دسواں حصہ ہیں۔ جناب حمید ان دنوں سعودی عرب کے پانچ روزہ دورے پر آئے ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنے دولسانی کمپیوٹر (عربی، انگریزی) کا تعارف کرائیں اور اس ملک میں ایک بڑے پلانٹ کے لگانے کے سلسلے میں تعاون حاصل کرسکیں۔ وہ شاہ فہد کی اسلامی خدمات کے اعتراف کے طور پر ان کی خدمت میں یہ کمپیوٹر پیش کریں گے۔ دوسرے حضرات جنہیں یہ کمپیوٹر پیش کیا جائے گا ان میں

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

تھائی لینڈ کے شاہ اور بحرین کے شیخ عیسیٰ بن سلیمان الخلیفہ شامل ہیں۔

کمپیوٹرائزڈ قرآن کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کرتے ہوئے جن کی تکمیل میں چار سال صرف ہوئے جناب حمید نے کہا کہ کمپیوٹر کسی بھی قرآنی آیت کو عربی یا انگلش میں اس کے معانی کے ساتھ اسکرین پر لا سکتا ہے، اسی طرح سے اگر دیکھنے والا سورہ کا تاریخی پس منظر یا آیت کی تشریح چاہتا ہے تو اس طرح کی معلومات بھی مطلوبہ بٹن کو دبا کر حاصل کی جا سکتی ہیں جناب حمید نے مزید بتایا کہ کمپیوٹر نہ صرف یہ کہ قرآنی آیات پیش کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آیات کے صحیح تلفظ کی بھی وضاحت کرتا ہے اس طور سے یہ کمپیوٹر تھائی لینڈ میں جہاں دینی علماء کی کمی ہے ایک ٹیچر گائڈ کا کام کرتا ہے۔

یہ ریسرچ اسکالرس اور محققین کے لئے بھی بہترین راہنما ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلقہ آیات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس طرح کی تمام متعلقہ معلومات فوراً اسکرین پر کھائی جا سکتی ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا دنیا میں پہلا کمپیوٹر ہے۔

قرآن کے اس پہلو کو لیتے ہوئے جس میں مسلمانوں کو حصول علم پر ابھارا گیا ہے جناب حمید نے یہ پروجکٹ شروع کیا ہے تا کہ قرآن کو بہتر طور پر سمجھنے کے لئے اعلیٰ ٹکنالوجی کے فوائد کو مسلمانوں کی دسترس تک لایا جا سکے۔ اس عظیم کام کی ابتداء اس وقت ہوئی جب تھائی لینڈ کے شاہ نے عربی، تھائی کمپیوٹرائزڈ ترجمہ قرآن کے منصوبہ کے لئے فنڈ فراہم کیا اس کے بعد دوسرے منصوبوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ عربی۔ جاوی ترجمہ کے لئے ملیشیا کے وزیر اعظم اور اردو۔ عربی ترجمہ کے لئے صدر پاکستان ضیاء الحق شکریہ کے مستحق ہیں جن کی توجہ سے یہ کام انجام پا سکا۔ عربی متن شیخ مخلوف کی تشریح کے ساتھ ہے۔ جبکہ انگریزی اور اردو کے متن عبداللہ یوسف علی اور مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی تفاسیر سے ماخوذ ہیں۔ (علوم القرآن علیگڑھ جنوری تا جون ۱۹۸۶ء بحوالہ دی عرب نیوز، جدہ، دوشنبہ، ۳ فروری ۱۹۸۶ء)

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

(۹) ویب سائٹ سے قرآن پڑھنا و سمجھنا سیکھئے

اب آپ کو ہم وہ طریقہ بتاتے ہیں جس سے آپ گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک کمپیوٹر کے ساتھ انٹرنیٹ ایکسپلورر 5 یا اس سے اوپر کا وژن اور کمپیوٹر کے ساتھ اسپیکر چاہئے۔ سائٹ کا پتہ ہے

www.understandquran.com وہ لوگ جنھیں عربی حروف بھی نہیں آتے ان کے لئے بھی یہ کورس ہے اور جو حروف جانتے ہیں وہ انگریزی، اُردو، ہندی، ملیالم، تامل، یا بوسنین زبانوں کے ذریعہ سے قرآنی عربی سیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ ویڈیو، پاور پوائنٹ، آڈیو، پی ڈی ایف فائل، اور ای بکس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

اس پروگرام میں مختصر کورس، بنیادی کورس، اور مکمل سارے ہیں تاہم میری تجویز یہ ہے کہ شارٹ کورس سے شروع کریں اور ویڈیو کے ذریعہ سے سبق لینا شروع کریں۔ نوٹس لینے، مزید ہوم ورک کرنے اور گرامر کے سیکھے گئے اصول کے مطابق نئے نئے الفاظ سے پریکٹس کرنے کی عادت سے، سیکھنے کا عمل بہت تیزی سے مکمل ہوگا۔ آپ کے بچے جو صرف انگریزی جانتے ہیں۔ ان کے لئے بھی یہ اتنا ہی مفید ہے۔ ویڈیو کے بعد پاور پوائنٹ پر دی گئی آزمائش کے ذریعہ آپ اپنا ٹیسٹ خود لے سکتے ہیں۔ اس کورس کے محقق، ڈیزائنر، پروڈیوسر اور استاذ بھارت کے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم ہیں۔ ان کا تعلیمی پس منظر میکینکل انجینئرنگ کا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی اس مقصد کے لئے لگا رکھی ہے اور عربی زبان سیکھنے کو اتنا آسان، اتنا خوبصورت اور اتنا پر کشش بنا دیا ہے کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہ تھا۔

عیسیٰ مغل اب چٹکی بجاتے ہی عربی سکھا سکتے ہیں۔ انھوں نے انٹرنیٹ کے ذریعہ اب دور دراز کے طلباء کو بھی پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ ان کی اپنی بھی ایک ویب سائٹ ہے www.subulassalam.com جس میں انھوں نے عربی زبان سیکھنے کے لئے تمام ممکنہ ذرائع اکھٹے کر رکھے ہیں۔ اب وہ خود ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے کورس کو پڑھا رہے ہیں۔

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

(۱۰) قرآنی تراجم وتفاسیر اور علوم القرآن پر اہم ویب سائٹس

قرآنی سورتوں کی روایتی اور حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب کا جائزہ لینے کے لئے درج ذیل سائٹ کوملاحظہ فرمائیں:

http:// www.wam.umd.edu/ibrahim/quran

اسی سائٹ پر آپ سورتوں کے نمبر شمار اور ہر سورت میں موجود آیتوں کی تعداد کو جدول کی شکل میں ملاحظہ کرسکتے ہیں یوں آپ کے لئے سورتوں اور ان کی آیات تک رسائی بہت آسان ہو جائے گی۔

اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی خاص موضوع سے مناسبت رکھنے والی آیات کا مشاہدہ کریں تو درج ذیل ویب سائٹ آپ کے لئے مناسب رہے گی۔

http:/www.usc.edu/dept/MSA/quran/quraniq inedx.html

اس سائٹ پر انگریزی زبان کے حروف تہجی کے مطابق مختلف موضوعات درج ہونگے۔سب سے پہلے آپ کوکسی خاص موضوع کا انتخاب کرنا ہوگا مثلاً اگر آپ کا ارادہ ہو کہ آپ قرآن میں تحریری معاہدے سے متعلق آیات تلاش کریں تو سب سے پہلے آپ کو موضوع "CONTRACT" کا انتخاب کرنا ہوگا پھر اس اصلی موضوعات کے ضمنی موضوعات ظاہر ہونگے مثلاً "Contract" کے تحت موضوع "WRITTEN , CONTRACT" ظاہر ہو جائے گا۔اب جب آپ مطلوبہ ضمنی موضوع کا انتخاب کرلیں گے تو اس موضوع کے تحت موجود آیات کے سورہ نمبر اور آیات نمبر سامنے آجائیں گے مثلاً درج بالا موضوع کے تحت نمبر 2:282 ظاہر ہوگا جس کا معنی ہوگا کہ سورہ نمبر 2 کی 282 ویں آیت۔جب آپ اس آیت نمبر کا انتخاب کریں گے تو اس آیت کے انگریزی کے تین ترجمے ظاہر ہوں گے جو کہ عبداللہ یوسف علی، پکھتال اور شاکر کے تراجم ہیں۔اب آپ اپنی مطلوبہ آیت کے ان تین تراجم کے درمیان موازنہ کرسکیں گے۔

ہر قرآنی سورت کا ایک شان نزول ہوتا ہے، اسی طرح ہر سورت کی ایک خاص اہمیت ہے

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

اور اسی کے مطابق بعض موضوعات اس سورت میں بیان کیے جاتے ہیں۔ جناب مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کا تحریر کردہ سورتوں کے بارے میں تعارف کا انگریزی ترجمہ اس وقت انٹرنیٹ پر موجود ہے درج ذیل ویب سائٹ پر ملاحظہ کیجئے:

http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/maududi

قرآنی سورتوں کا یہ تعارف دراصل مولانا مودودی کی تفہیم القرآن سے لیا گیا ہے یاد رہے کہ انٹرنیٹ پر پوری تفہیم القرآن موجود نہیں ہے بلکہ صرف سورتوں کا تعارف موجود ہے۔

قرآن اور سائنس پر چند دلچسپ مقالات کے حصول کے لئے ملاحظہ کیجئے:

http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/dyktb.html

درج بالا سائٹ پر موجود مقالات جناب محمد تھلوی کے تحریر کردہ ہیں۔ جناب محمد عبداللہ کا قرآن اور سائنس پر موجود مقالہ درج ذیل سائٹ سے لیا جا سکتا ہے:

http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/scis/am/html

اگر آپ چاہتے ہیں کہ تدوین قرآن کی مختصر تاریخ پر کوئی مقالہ حاصل کریں تو آپ کو درج ذیل سائٹ پر جانا ہوگا

http:// www.usc.edu/dept.MSA.quran.compilation brief.html-1

دنیا کی زبانوں (انگریزی، ہسپانوی، فرانسیسی، اور جرمن) میں قرآنی الفاظ کی تلاش کا کام درج ذیل سائٹ پر جا کر کیا جا سکتا ہے:

http:// www.orst.edu/group/msa/quran/search.html- 2

اس مضمون کے پہلے حصے میں ہم نے قرآنی آیات کی عربی عبارت کے حصوں کے حوالے سے ایک ویب سائٹ کا تعارف کروایا تھا:

http://www.wam.and.edu/sirt/Quran.htm

اس ایڈریس کے علاوہ ہم آپ کو کچھ اور ویب سائٹس کا تعارف کروا رہے ہیں جہاں سے آپ پورے قرآن کی عربی عبارت حاصل کر سکتے ہیں ایک ایڈریس درج ذیل ہیں۔

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

http:// almnar.org/qllqa.html

اس ایڈریس کے علاوہ ایک اور ایڈریس پر بھی جا کر عربی عبارت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جو خوبصورتی کے لحاظ سے سب سے بہتر ہو ایڈریس یہ ہے۔

http://www.unn.ac.uk/soueties/Islamic/quran/alindex.html

اس ویب سائٹ پر قرآنی عبارت کے علاوہ آپ عبداللہ یوسف علی کے انگریزی ترجمے کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں۔

قرآن کی آیات کا عربی متن ڈاکٹر تقی الدین الھلالی اور ڈاکٹر محسن خان کے گئے قرآنی تراجم کے مشاہدے کے لئے آپ کو درج ذیل سائٹ پر جانا ہوگا۔

http:// www.unn.ac.uk/socielies/islamic/quran

تجوید قرآن سیکھنے کے لئے ہم آپ کی خدمت میں دو ویب سائٹس کا تعارف کروار ہے ہیں۔ یہ سائٹس عربی زبان میں ہے اور تجوید سیکھنے کے لئے نہایت مناسب:

http:// www.duke.edu/maaz/tajweed/taq.html

http:// www.us.syr.edu/mutawa/tajweed tajweed/taq.html

بحوالہ المیزان جنوری ۱۹۹۸ء

اس سے قبل بھی آپ ہمارے سابقہ دو شماروں میں ویب سائیٹ پر دو مضامین مطالعہ کر چکے ہیں، ایک مضمون Fake and Genuine Islamic Websites : Researched By Jamished Iqbal جلد ۲، شمارہ تین ص ۳۶، شائع ہو چکا ہے۔ دوسرا ڈاکٹر فرحت کا مضمون جلد نمبر ۱، شمارہ نمبر ۲، صفحہ نمبر ۱۱۷ پر شائع ہو چکا ہے۔

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا (سورۃ الدہر:۹)

ہم تم کو اللہ کے لئے کھلاتے ہیں نہ تم سے معاوضہ کے خواہش مند ہیں نہ شکریہ کے۔

خدمت خلق و رفاہ عامہ کی اہمیت

سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں

مصنف

پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین ثانی

مکتبہ یادگار شیخ الاسلام پاکستان علامہ شبیر احمد عثمانیؒ

© rasailojaraid.com